



5278CH09

نفسیاتی مہارتوں کا فروغ

9

- اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ:
- ✓ ماہرین نفسیات میں اعلیٰ قابلیت پیدا کرنے کی ضرورت کو سمجھ سکیں گے،
 - ✓ مشاہداتی مہارت کے بنیادی پہلوؤں کو بیان کر سکیں گے،
 - ✓ ترسیل کی مہارت کو پیدا کرنے کی اہمیت کو جان سکیں گے،
 - ✓ انفرادی جائزہ کے لیے نفسیاتی جانچ کی مہارت کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے اور مشاورت کی نوعیت اور عمل کی وضاحت کر سکیں گے۔

تعارف

ایک بااثر ماہر نفسیات کا بننا

عام مہارتیں

دانشورانہ ذاتی ہنرمندی: حساسیت سے اختلاف تک

ذہنی اور ذاتی مہارتیں (باکس 9.1)

مشاہداتی ہنرمندی

مخصوص ہنرمندی

ترسیلی مہارتیں

ترسیل کی خصوصیات (باکس 9.2)

اپنی سماعتی مہارت کو بہتر بنانے کی کچھ ترکیبیں (باکس 9.3)

نفسیاتی جانچ کا ہنر

نفسیاتی تشخیص کی مہارت کے اہم نکات اور مسائل (باکس 9.4)

انٹرویو کی مہارتیں

انٹرویو کے سوالات کی اقسام (باکس 9.5)

مشاورتی ہنرمندی

مشمولات

کلیدی اصطلاحات

خلاصہ
اعادہ سوالات
پروجیکٹ کی تجاویز
ویب لنکس
تعلیمی اشارات

جیسا کہ آپ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ نفسیات کی شروعات ایک اطلاق رخی مضمون کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ نفسیاتی جانچ نفسیات میں کارگزاری کی ایک اہم مثال ہے۔ نفسیات ہماری زندگی سے متعلق مختلف سوالات پر روشنی ڈالتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کامیاب انسان کے لیے کس طرح کی شخصیاتی بناوٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ یا بارہویں کلاس میں پڑھنے والے ایک طالب علم کے لیے کس طرح کا پیشہ مناسب ہوگا؟ اسی طرح سے انسانیت سے متعلق دیگر سوالات و تجسس ہوتے ہیں جن کا جواب ماہرین نفسیات سے پوچھا جاتا ہے۔ اطلاقی رخ سے متعلق نفسیات کے دو طرح کے تصورات ہیں: پہلا خدماتی رخ والا شعبہ تعلیم اور دوسرا سائنسی طریقہ پر مبنی تحقیقی مضمون۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور انہیں الگ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہوگا کہ کچھ خاص اجزا نفسیات کو اطلاقی یا استعمالی رخ کی حیثیت دینے میں مدد کرتے ہیں۔ اول، ماہرین نفسیات نے گزشتہ اور موجودہ دونوں ہی دور میں کسی شخص، گروپ، تنظیم یا سماج کے بہت سارے مسائل کے حل کے لیے نفسیاتی اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی۔ جیسے ہی کوئی شخص یا سماج کسی مسئلہ سے رو برو ہوتا ہے، مسئلہ کچھ زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے اس کا ٹھوس حل نکالنے کی کوشش کی ہے مثلاً افسردگی کی فطرت میں تیزی سے اضافہ اور نوجوانوں میں خودکشی کی شرح ایسا ہی ایک میدان ہے جہاں نفسیاتی معلومات جو نوبالغی نمو کے لیے خاص ہے، کا استعمال ان واقعات کے ہونے کی سمجھ پیدا کرنے اور نوجوانوں کو ان کے شروعاتی مسائل کو حل کرنے میں مدد کرنے کی غرض سے کچھ مداخلتی طریقہ کی ایجاد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماہرین نفسیات کی مہارت کی قدر بازاروں میں بہت زیادہ ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں نفسیات کی مانگ اور مقبولیت ایک پیشہ کے طور پر کافی بڑھی ہے۔ سماج کے مختلف حلقوں نے نفسیاتی معلومات اور ان کی اصلی کارکردگی کو منظم کرنے میں گہری دلچسپی دکھائی ہے۔ اسے خاص طور سے فوج یا تعلیمی میدان میں دیکھا جاسکتا ہے جہاں کہ کچھ ریاستوں میں اسکولوں کے لیے ایک تربیت یافتہ صلاح کار کا ہونا ضروری ہے انتظامیہ میں شمولیت اور تشخیص ملازم کے برتاؤ، کام کی جگہ پر تناؤ وغیرہ، صحت سے متعلق مسائل اور آج کل کھیل کود سے بھی متعلق مسائل کا سامنا کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ تقریباً زندگی کے سبھی شعبوں میں ماہر نفسیات کی مانگ سامنے آرہی ہے۔

جو عام طور سے طبی اور مشاورتی ماحول میں استعمال کیا جاتا ہے۔ نفسیات میں مریض کا مطلب ایک فرد، گروپ یا تنظیم سے ہو سکتا ہے جو ماہرین نفسیات سے اپنے مسائل کے سلسلہ میں مدد یا رہنمائی چاہتا ہے۔

لفظ مہارت کی تعریف لیاقت، چستی اور پھرتی کے طور پر کی جاسکتی ہے جو تربیت اور تجربہ کے ذریعہ حاصل یا پیدا کی جاتی ہے۔ ولسٹر ڈکشنری نے اس کی تعریف ان خصوصیات کو رکھنے سے کی ہے جس کی ضرورت کچھ کرنے یا کچھ پانے میں ہوتی ہے۔

امریکی نفسیاتی ایسوسی ایشن (1973) نے مہارت جو کہ پیشہ ور ماہر نفسیات کے لیے ضروری ہے اس کی پہچان کے لیے جوٹاسک فورس بنائی اس

نفسیات کے سبھی اطلاقی میدانوں میں انسانی فطرت اور مختلف ماحول میں ماہرین نفسیات کے کردار کے بارے میں بنیادی مفروضات پر عام اتفاق رائے ہے۔ یہ عام تصور ہے کہ ماہرین نفسیات کی دلچسپی لوگوں میں، ان کی صلاحیتوں میں اور ان کے مزاج میں ہے۔ کسی بھی حلقہ کے ماہرین نفسیات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی لوگوں میں دلچسپی ہو اور وہ معلومات کے ذریعہ لوگوں کی مدد کرنے میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کریں۔ آپ کسی مریض کے کوائف حاصل کرنے ان کے سماجی، تہذیبی ماحول، اس کی شخصیاتی تشخیص اور دیگر اہم پہلوؤں کی معلومات حاصل کرنے میں ماہرین نفسیات کی گہری شمولیت کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مریض ایک خاص لفظ ہے

نے کم از کم تین طرح کی مہارتوں کی سفارش کی جو مندرجہ ذیل ہیں: انفرادی فرق کی تشخیص، طرز عمل میں تبدیلی کی مہارت اور مساواتی رہنمائی سے متعلق مہارتیں۔ ان مہارتوں اور صلاحیتوں کی پہچان اور استعمال سے اطلاقی نفسیات کی بنیاد اور مشق کو ایجابی مضبوطی ملی ہے۔ کس طرح کوئی شخص ایک پیشہ ور ماہر نفسیات بن سکتا ہے؟

ایک بااثر ماہر نفسیات کا بننا

زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کے ماہر نفسیات ہیں ہم کبھی بھی ذہانت، احساس کمتری، پہچان کی کمی، ذہنی رکاوٹ، رویہ، دباؤ، ترسیلی رکاوٹ و دیگر بہت سی اصطلاحات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عام طور سے لوگ ان الفاظ کو مقبول تحریروں اور میڈیا سے چن لیتے ہیں۔ انسانی برتاؤ کے بارے میں بہت سے عام فہم خیالات ہیں جنہیں لوگ اپنی زندگی میں قائم کر لیتے ہیں۔ انسانی برتاؤ میں باقاعدگی جن کا مشاہدہ ہمیں بار بار کرنے کے سبب ان کو رائج کرنے کا جواز مل جاتا ہے۔ اس طرح کی روزمرہ کی غیر مکمل نفسیات اکثر مقصد حاصل کرنے سے قاصر ہوتی ہے اور کبھی کبھی تباہ کن بھی ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح نقلی اور اصلی ماہرین نفسیات کے درمیان فرق کیا جائے اس کا جواب کچھ سوالات ان سے پوچھ کر حاصل کیا جاسکتا ہے جیسے پیشہ ورانہ تربیت، تعلیمی پس منظر، ادارہ سے منسلک ہونا اور خداتی تجربات۔ بہر حال تربیت ایک محقق کی حیثیت سے ہوئی ہو اور مخصوص پیشہ ورانہ اقدار کو اپنایا گیا ہو یہ زیادہ اہم بات ہے۔

اب یہ مان لیا گیا ہے کہ ماہرین نفسیات کے ذریعہ استعمال کیے جانے والے ذرائع کی معلومات ان کے طریقہ کار اور نظریات کی ضرورت نفسیاتی مہارت حاصل کرنے میں پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیشہ ور ماہر نفسیات مسئلہ کا حل سائنسی طریقہ سے کرتا ہے۔ وہ اپنے مسئلہ کو تجربہ گاہ میں لے جاتے ہیں یا مختلف مسائل کے حل کرنے کے لیے حلقہ جاتی مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ مسئلے کا حل ریاضیاتی احتمال کے ذریعہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب جا کر وہ کسی نفسیاتی طریقوں یا اصولوں پر پہنچ پاتے ہیں جس پر انحصار کیا جاسکتا ہے۔

یہاں ایک دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ کچھ ماہرین نفسیات کسی اصول کو مرتب کرنے یا جانچ کرنے کے لیے تحقیقات کیا کرتے ہیں جب کہ دیگر کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی اور طرز عمل سے ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں طرح کے ماہر نفسیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں کچھ سائنسدانوں کی ضرورت اصولوں کو مرتب کرنے کے لیے پڑتی ہے جب کہ کچھ کی ضرورت انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑتی ہے۔ ضروری ہے کہ ایک ماہر نفسیات میں تحقیقی ہنرمندی کے علاوہ ان کی ضروری صلاحیت اور حالات کی معلومات ہو۔ ماہر نفسیات کو ان کے حالات اور صلاحیت کے لیے بین الاقوامی طور پر پہچان ملتی ہے۔

تعلیم اور تربیت کے بعد پیشہ میں داخل ہونے کے لیے ایک ماہر نفسیات کو وسیع معلومات ہونی چاہئیں۔ یہ پیشہ ور، علما اور تحقیق کرنے والوں پر لاگو ہوتا ہے جن کے کاموں میں طلبا سے ملنا، کاروبار، کارخانہ اور سماج سے رابطہ قائم کرنا شامل ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم نفسیات جیسے مضمون کے لیے مطلوبہ صلاحیتوں کو ناپنا، لاگو کرنا اور پیدا کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ اس کی پہچان، اندازہ لگانے اور جانچ کی شرائط پر عام اتفاق رائے نہیں ہو سکتا ہے۔ بنیادی صلاحیت اور مہارت جس کی پہچان ماہرین نفسیات نے ایک بااثر ماہر نفسیات ہونے کے لیے کی ہے اسے تین بڑے حلقوں میں بانٹا ہے۔ (a) عام مہارتیں (b) مشاہداتی مہارتیں (c) مخصوص مہارتیں۔ انہیں یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

عام مہارتیں

ایسی مہارتیں عام نوعیت کی ہوتی ہیں اور ان کی ضرورت سبھی ماہرین نفسیات کو ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی حلقہ میں ماہر ہوں۔ یہ مہارت سبھی پیشہ ور ماہرین نفسیات کے لیے ضروری ہے چاہے وہ طبی اور صحت کے حلقہ میں ہوں، کارخانوں میں، تنظیموں میں، سماج میں، تعلیم میں یا کسی ماحولیاتی ڈھانچے میں ہوں یا ایک مشیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں۔ اس طرح کی مہارت میں ذاتی اور علمی ہنرمندی شامل ہوتی ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جن طلبا میں اس طرح کی ہنرمندی کی کمی ہے انہیں کسی طرح کی پیشہ ورانہ تربیت

ایک ماہر نفسیات ماحول کے مختلف پہلوؤں کا مشاہدہ کرنے میں مصروف رہتا ہے جس میں مختلف واقعات شامل ہیں۔ شروع میں ایک ماہر نفسیات طبعی ماحول کی پوری توجہ کے ساتھ جانچ پڑتال کرنے کی شروعات کر سکتا ہے تاکہ اس کی کیفیت کے یا گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے۔ وہ فرش کے رنگ، چھت کے رنگ، کھڑکی کے سائز، دروازہ کے سائز، روشنی کی قسم، صنایعی، مصوری، مجسمہ سازی وغیرہ کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ یہ سبھی چھوٹے، نازک اور بے ربط سے دکھائی دینے والے اشارات انسانی طرز عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ماہر نفسیات گرد و پیش کے ان اشاروں پر غور کرتا ہے۔ طبعی ماحول کے علاوہ ایک ماہر نفسیات لوگوں اور ان کے افعال کے مشاہدے میں بھی سرگرمی کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ اس میں آبادیاتی خصوصیات (عمر، جنس، قد و قامت، ذات، نسل وغیرہ) دوسروں سے بات چیت اور معاملات، دوسروں کے

(طبعی یا تنظیمی میدانوں میں) دینا مناسب نہیں ہے جب کسی طالب علم میں اس طرح کی مہارت پائی جاتی ہے تبھی اس میدان میں تربیت دی جاتی ہے جو اس کی ہنرمندی میں بہتری لاتی ہے جو کہ ایک پیشہ ور کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس طرح کی ہنرمندی کی کچھ مثالیں باکس 9.1 میں دی گئی ہیں۔

مشاہداتی ہنرمندی

ماہرین نفسیات محققین اور معالج کی حیثیت سے جو عمل کرتے ہیں وہ ہیں: پوری توجہ دینا، نظر رکھنا اور بغور سننا۔ ان سبھی جسمانی حواس کا استعمال کرتے ہیں، جن کے ذریعہ، دیکھنے، سننے، بو، ذائقہ یا لمس پر غور کیا جائے گا۔ اس طرح ماہر نفسیات آگے کار کی طرح ہوتا ہے جو ماحول سے متعلق معلومات کے سبھی ذرائع کا انجذاب کرتا ہے۔ آپ مشاہدے کے بارے میں گیارہویں جماعت میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں۔ اس سال ہم مشاہداتی مہارتوں کے فروغ پر زیادہ توجہ دیں گے۔

ذہنی و ذاتی مہارتیں

باکس
9.1

- 1- ذہنی مہارتیں: سننے کی صلاحیت و ہمدردانہ تعلقات، دوسروں کی تہذیب، تجربات، اقدار، نقطہ نظر، مقاصد اور خواہشات، خوف، معلومات حاصل کرنے کے لیے کھلا پن وغیرہ کی قدر کرنا اور اس میں دلچسپی دکھانا۔ اس طرح کی ہنرمندی کا اظہار زبانی طور پر ہوتا ہے۔
- 2- ذہنی مہارتیں: مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت تقییدی سوچ، منظم فکر میں مبتلا ہونا، جستجو اور لچبلا پن کا ہونا۔
- 3- احساسی مہارت: جذبات پر قابو، توازن، برداشتگی، اپنی اخلاقیات کی سمجھ غیر طے شدہ شبہ کی برداشتگی۔
- 4- شخصیت، رویہ: دوسروں کی مدد کرنے کی خواہش، نئے خیالات میں کھلا پن، ایمانداری، یکجہتی، اقداری اخلاقیاتی برتاؤ، ذاتی حوصلہ۔
- 5- اظہاری مہارتیں: اپنے خیالات، احساسات کی زبانی اور غیر زبانی یا لکھی ہوئی معلومات کی ترسیلی مہارت۔
- 6- تفکر مہارتیں: اپنے محرمات، رویوں، طرز عمل کا جائزہ لینے کی صلاحیت اور اپنے خود کے اور دوسروں کے طرز عمل کے لیے احساسی صلاحیت۔
- 7- ذاتی مہارتیں: ذاتی تنظیم، ذاتی حفظان صحت، وقت کا انتظام اور مناسب ملبوسات۔

تنوع کے تئیں احساس پذیری: انفرادی اور ثقافتی اختلافات۔

- خود کے بارے میں معلومات (اپنے رویہ، اقدار اور متعلقہ قوت/ کمزوریاں) پیشہ ورانہ ماحول میں متعدد دیگر تنوع کے ساتھ جیسے کوئی عمل انجام دیتا ہے۔
- فطرت سے متعلق معلومات اور مختلف حالات میں انفرادی و تہذیبی تنوع کے اثرات۔
- تشخیص، علاج و مشاورتی جیسی اختلافی پس منظر میں مؤثر طور پر کام کرنے کی صلاحیت۔
- مختلف ثقافتی معیار و عقائد کی قدر و ستائش کرنے کی صلاحیت۔
- اپنی ترجیحات اور اپنے گروپ کے لیے کسی کی ترجیحات کے تئیں بھی احساس پذیری۔
- ثقافتی عقائد میں تنوع کی تائید کرنے کی صلاحیت اور زندگی میں مثبت نتائج کو فروغ دینے کے لیے اس کی قدر کرنا۔

دیگر صورت میں باہری آدمی بن کر معلومات حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔

مشاہدہ کے فوائد اور نقصانات

- اس کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں ایک طبعی ماحول میں برتاؤ کے دیکھے جانے اور مطالعہ کیے جانے کی گنجائش ہوتی ہے۔
- باہر کے لوگ یا وہ جو اس ماحول میں کام کر رہے ہیں ان کو اس کے استعمال کے لیے تربیت دی جاسکتی ہے۔
- اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ مشاہدے میں شامل لوگوں اور مشاہدین کے احساسات کے سبب مشاہدہ کیے جانے والے واقعات کے تینس جانبداری برتی جاسکتی ہے۔
- کسی مخصوص ماحول میں عام طور پر اوروں کے کام کاج ایک معمول کی طرح ہوتے ہیں جس کو مشاہدہ کبھی کبھی نظر انداز کر سکتا ہے۔
- دوسری اہم کمزوری یہ ہے کہ مشاہدہ کی موجودگی کے سبب دوسروں کے حقیقی برتاؤ اور وہ ردعمل متاثر ہو سکتے ہیں جن سے مشاہدہ کا بنیادی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔

سامنے برتاؤ کا انداز وغیرہ شامل ہیں۔ ایک ماہر نفسیات ان تفصیلات کا ریکارڈ رکھتا ہے کیونکہ مشاہدے کے دوران کچھ اہم باتیں سامنے آسکتی ہیں۔ مشاہدہ کے عمل میں درج ذیل نکات پر توجہ دی جاتی ہے:

- اپنے طبعی ماحول پر توجہ دینا۔ کون، کیا، کب، کہاں، کیسے۔
- لوگوں کے ردعمل، جذبات اور محرکات سے باخبر رہنا۔
- مشاہدہ کے دوران جواب موصول ہونے والے سوالات کرنا۔
- پوچھے جانے پر اپنے بارے میں معلومات فراہم کرنا۔
- پر امید تجسس کے ساتھ مشاہدہ کرنا اور
- اخلاقی اصولوں کے تحت مشاہدے کے وقت لوگوں کی بے جا مداخلت سے تحفظ کا حق اور معیارات کا لحاظ کرنا ہے۔ دھیان رکھیں کہ کسی کی معلومات دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔
- آپ مشاہدہ کے دو اہم نظریات یعنی طبعی اور سرکشی مشاہدہ سے پہلے ہی واقف ہو چکے ہیں اب ہم ان کے بارے میں نمونہ پذیر مہارتوں پر توجہ دیں گے۔
- طبعی مشاہدے مخصوص ترتیب میں لوگوں کے طریقہ عمل کے بارے

میں سیکھنے کا ایک بنیادی طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بازار میں لوگوں کا طرز عمل اس وقت کس طرح کا ہوتا ہے جب انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کمپنی نے بھاری چھوٹ (معمول سے کم قیمت) دے رکھی ہے۔ اس کے لیے آپ اس بازار میں جاتے ہیں جہاں چھوٹ والی اشیا کی نمائش لگی ہو اور منظم طور پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ خریداری سے قبل اور اس کے بعد کیا کرتے اور کہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کے موازنہ سے کیا کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو ضروری بصیرت فراہم ہو سکتی ہے۔

شرکتی مشاہدے طبعی مشاہدے کے طریقہ کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے۔ اس میں مشاہدہ کرنے والا مشاہدہ کے عمل میں اس ماحول کا حصہ بن کر شامل ہو جاتا ہے جہاں مشاہدہ انجام پاتا ہے۔ مثال کے طور پر درج بالا میں سے مشاہدہ کرنے والا اس خریداری مرکز کے شوروم میں جزوقتی ملازمت کر سکے تاکہ وہ ایک اندر کا آدمی بن کر خریداروں کے طرز عمل میں تبدیلی پر توجہ دے سکتا ہے۔ اس طریقہ کا استعمال عام طور سے ماہر بشریات کرتے ہیں جن کا مقصد اندرونی نظام سے براہ راست معلومات حاصل کرنا ہوتا ہے جب کہ

سرگرمی 9.1

اپنی بین شخصی (افراد کے درمیان باہمی) مہارتوں کا تعین قدر ایک کاغذ پر تحریر کیجیے کہ درج ذیل پھلوؤں کے لحاظ سے آپ خود کا بیان کس طرح کریں گے:

- دوستانہ روش
- مزاج
- شگفتہ طبعی
- کیریر کے تئیں تعین مقصد
- ٹیم اور گروپوں میں کام کرنے کی اہلیت
- آزادی
- دوسروں کے ذریعہ اعتراف کیے جانے کی خواہش
- ڈسپلن

اب تین تا پانچ ممبروں کے گروپ کی تشکیل کیجیے۔ درج بالا پھلوؤں پر جتنا بہتر آپ کر سکتے ہیں کیا گروپ میں دیگر ممبروں کے ذریعہ ہر ممبر کی قدر شناسی اسی طرح کی گئی۔ ہر ممبر ان پھلوؤں پر یکسانیت اور اختلاف اور اپنے خود کے ادراک کا تجزیہ کرنے اور گروپوں کے دیگر ممبران کے ذریعہ انہیں کیسے سمجھایا گیا ہے، نتیجہ نکالتا ہے۔

مخصوص ہنرمندی

با اثر ترسیل سیکھنا صرف ایک تعلیمی کام نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم مہارتوں میں سے ایک ہے جو آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اس کلاس میں بھی آپ کی کامیابی آپ کی ترسیلی صلاحیت پر منحصر ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بہتر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو سوالات پوچھنے اور جواب دینے، رائے اور خیالات کا خلاصہ کرنے اور رائے سے حاصل حقائق میں امتیاز کرنے اور اپنے ہمسروں اور اساتذہ کے ساتھ نتیجہ خیز تعامل کرنے کی اہلیت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو سننے کی مہارت کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ کلاس میں دی گئی معلومات اور دیگر لوگوں کی زبانی اور غیر زبانی باتوں کو سمجھ سکیں۔ آپ کے پیش کرنے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ کلاس میں دیے گئے کام جو کہ ایک منصوبہ کی شکل میں ہو سکتا ہے، کی رپورٹ یا خلاصہ بہتر طریقہ سے پیش کر سکیں۔ ہم ترسیل عمل سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترسیل ایک شعوری یا لاشعوری، قصداً یا غیر ارادی عمل ہے جس میں خیالات اور احساسات کا اظہار زبانی یا غیر زبانی ہوتا ہے، پیغامات کو بھیجنا موصول ہونا یا سمجھنا ہوتا ہے۔ ترسیل کی خصوصیات کا بیان باکس 9.2 میں کیا گیا ہے۔

ترسیل عمل اتفاقی (کوئی مقصد نہیں) اظہار فرد کی جذباتی کیفیت کے نتیجے میں یا خطائی (ترسیل کرنے والوں کے خصوصی مقصد کے نتیجے میں) ہو سکتے ہیں۔ درون ذات یا بین الافراد اور عوامی سطح پر ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ سے ترسیل میں درون ذات میں خود گفتگو کرنا شامل ہوتا ہے۔ یہ ترسیل فکری عمل، ذاتی فیصلہ سازی اور خود پر توجہ دینے جیسی سرگرمیوں کا احاطہ کرتی ہے۔ بین الافراد ایسی ترسیل کی ترسیل کو کہتے ہیں جو دو یا زائد لوگوں کے درمیان ہوتی ہے اور ایک ترسیل تعلق قائم کرتی ہے۔ آپسی ترسیل کے اقسام میں روبرو یا مداخلتی انٹرویو اور چھوٹے گروپ میں بحث شامل ہیں۔ عوامی ترسیل کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولنے والا سامعین کو ایک پیغام دیتا ہے یہ براہ راست بھی ہو سکتا ہے جیسے پیغام دینے والا حاضرین کو روبرو پیغام دے سکتا ہے یا بالواسطہ پیغامات کا جیسے ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے نشر ہونا۔

یہ مہارت نفسیاتی خدمات کے میدان میں اصل اور بنیادی ہیں۔ مثال کے طور پر جو ماہر نفسیات طبی ساخت میں کام کرتے ہیں ان کے لیے معالجاتی مداخلت، نفسیاتی تشخیص اور مشورہ سے متعلق مختلف طریقہ کار میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تنظیمی ماہرین نفسیات جو کسی تنظیمی پس منظر میں کام کرتے ہیں انہیں تشخیصی، سہولیتی، مشاورتی اور کرداری مہارتوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ فرد، گروپ، ٹیم اور تنظیمی ترقی لانے کے علاوہ تحقیقی مہارت وغیرہ میں بھی اضافہ ہو۔ گرچہ مخصوص مہارت اور صلاحیت کی ضرورت کسی خاص پیشہ ورانہ کام کے لیے پڑتی ہے پھر بھی ساری مہارتوں کا ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص حلقہ کے لیے مخصوص نہیں ہوتی ہیں۔ متعلقہ مخصوص مہارتوں اور صلاحیتوں کو ذیل میں درجہ بند کیا گیا ہے۔

(a) ترسیلی مہارت

- بولنا
- فعال سماعت
- جسمانی اظہار یا غیر زبانی مہارت
- (b) نفسیاتی جانچ کی مہارتیں
- (c) انٹرویو کی مہارتیں
- (d) مشاورتی مہارتیں
- ہم احساس ہونا
- اثباتی خیال
- معتبریت یا مستند ہونا

ترسیلی مہارتیں

یہ مہارت جس پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھنے میں تجریدی ہو سکتی ہے۔ بہر حال آپ اسے تب بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں گے جب آپ ان سے متعلق کسی عمل میں شامل ہوں گے۔ آئیے ہم ترسیل عمل کی بنیاد کو سمجھتے ہیں اور دیکھیں کہ ذاتی اثر پذیری اور تعلقات کو بہتر بنانے میں اس کا کیا کردار ہے۔

ترسیل کی خصوصیات


ترسیل قوت متحرک ہے کیونکہ عمل مسلسل بدلنے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ افراد جو کہ تبدیلی کی ترسیل کر رہے ہیں ان کی توقعات، رویے، احساسات اور جذبات میں جس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے اسی طرح ان کی ترسیل کی کیفیت بھی بدلتی ہے۔
ترسیل مسلسل ہوتی ہے کیونکہ یہ کبھی نہیں رکتی ہے، خواہ ہم نیند کی حالت میں ہوں یا جاگے ہوئے ہوں ہم ہمیشہ نظریات اور افکار کی عمل کاری میں لگے ہوتے ہیں ہمارا دماغ فعال بنا رہتا ہے۔

ترسیل باقابل تئیں ہے کیونکہ ہم جب پیغام بھیج دیتے ہیں ہم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ ایک بار بات جب زبان سے نکل جائے، بمعنی پہلو مل جائیں یا جذباتی اظہار ہو تو ہم اسے مٹا نہیں سکتے۔ ہماری معذرت یا تردید سے ہلکا تو بنا سکتی ہے لیکن جو ترسیل ہو چکا ہے اسے پوری طرح نہیں مٹایا جاسکتا۔
ترسیل تقابلی ہے کیونکہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اور خود اپنے سابقہ مستقل ربط میں رہتے ہیں دوسرے ہماری تقریر یا بولنے اور کاموں پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور ہم اپنی خود کے بولنے اور عمل پر رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعد ان رد عمل 5 اظہار کیا جاتا ہے۔ اس عمل اور رد عمل کا دور ہماری ترسیل کی بنیاد ہے۔

ہوئے اسے موصول کرتا ہے، وہ کوڈ کشائی کرتا ہے (یعنی اس پیغام کا ترجمہ سمجھ جانے کے لائق معلومات کی شکل میں طے کرتا ہے) مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے گھنٹی کی آواز سنی اور کسی چیز کی نرمی کا احساس ہوا۔ یہ زبانی ترسیل کی مثالیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے ان اشاروں کو کس طرح سمجھا جنہیں آپ کے حسی عضو نے موصول کیا آپ غیر زبانی طریقہ سے بھی جواب دے سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی گرم چولھے کو چھوئیں تو آپ کی انگلیاں جلدی ہٹ جائیں گی اور آپ کی آنکھوں میں آنسوں بھر آئیں گے۔ انگلیوں کا ہٹنا اور آنسو کا آنادیکھنے والوں کو آپ کا درد بیان کر دے گا۔
تصویر 9.1 میں دیے گئے ماڈل میں ترسیل کے عمل میں شامل مختلف مراحل کو دکھاتی ہے۔

انسانی ترسیل کے عناصر

جب ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں تو ہم انتخاب پر مبنی ترسیل کرتے ہیں یعنی ہمارے لیے دستیاب الفاظ اور افعال وغیرہ سے متعلق معلومات کے مخزن کا وسیع دائرہ ہوتا ہے جس سے ہم انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے زیادہ موزوں لگتے ہیں۔ جب ہم ترسیل کرتے ہیں تب ہم پیغام بندی (یعنی نظریات لیتے ہیں انہیں معنی خیز بناتے ہیں اور پیغام کی شکل میں لاتے ہیں) اور ان خیالات کو کسی ذریعہ سے بھیجتے ہیں۔ اس میں ہماری حیات (یعنی دیکھنے، سننے، ذائقہ، سونگھنے، چھونے کی حس) پیغام کو ایسے شخص کے پاس بھیجا جاتا ہے جو اپنے بنیادی نظام اشارہ کا استعمال کرتے



تصویر 9.1: بنیادی ترسیل عمل

کرتے وقت جہاں تک ہو سکے صاف اور ٹھوس ہونے چاہئیں۔ ترسیل کسی پس منظر میں ہوتی ہے اس لیے دوسروں کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ بھیجنے والے کا نقطہ نظر ہوتا ہے جس میں وہ کچھ کہتا ہے اور یہ بھی کہ کیا وہ آپ کے مفہوم کو سمجھ رہے ہیں اگر نہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو سننے والے کے مطابق ہوں۔ یاد رہے کہ عامیانہ اظہار اور ایسے الفاظ کا استعمال جو کسی علاقے یا تہذیب کے لیے نیا ہو کبھی کبھی اچھی ترسیل کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔

سننا

سننا ایک اہم مہارت ہے جس کا استعمال ہم روز کرتے ہیں۔ آپ کی تعلیمی کامیابی، روزگار حاصل کرنا اور ذاتی خوشی بہت حد تک آپ کی سننے کی موثر صلاحیت پر منحصر ہوتی ہے۔ شروع میں سننے کا کام ایک انفعالی برتاؤ ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس میں خاموشی شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ تصور حقیقت سے پرے ہے سننے میں انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں صبر کرنا، کسی فیصلہ پر نہیں پہنچنا، تحلیل اور جواب دینے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔

حس سماعت اور سماعت ایک نہیں ہے۔ حس سماعت ایک حیاتیاتی کارکردگی ہے جس میں حساس ذرائع سے پیغام کی تعمیل شامل ہے۔ یہ سماعت کا ایک حصہ ہے جو ایک عمل ہے جس میں دیے گئے پیغام کی تعمیل، توجہ، معنی خیز بنانے اور سننے والے کا جواب شامل ہے۔

قبولیت

سننے کے عمل کا پہلا مرحلہ صحیح یا پیغام کی وصولیابی ہے۔ پیغام سننے یا دیکھنے سے متعلق ہو سکتا ہے۔ سننے کا عمل جسمانی تعامل کے ایک پیچیدہ مجموعے پر مبنی ہے جس میں کان اور دماغ کو شامل کرتے ہوئے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے۔ سننے سے متعلق میکائیت کے استعمال کے علاوہ لوگ اپنے نظام بصارت کے ذریعہ بھی سنتے ہیں وہ اس انسان کے چہرہ کا بیان، بیٹھنے، حرکت کرنے اور ظاہر داری کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں جس سے اہم نکات حاصل ہوتے ہیں جو پیغام کے صرف زبانی سننے سے ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔

توجہ

ایک بار جب صحیح لفظ، مرئی یا دونوں موصول ہوتے ہیں وہ انسانی نظام عملی کی

جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ترسیلی عمل میں اس کے ترسیل کی اثر پذیری ترسیل کرنے والوں کے درمیان پیغام بھیجنے اور موصول کرنے کے لیے استعمال میں لائے گئے اشارہ اور کوڈ سمجھنے پر منحصر ہے۔ مان لیجیے کہ آپ امتحان دینے جا رہے ہیں اچانک آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ اپنا قلم کلاس میں نہیں لائے ہیں۔ آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قلم ہے جو مجھے دے سکتے ہو؟ وہ ہاں کہتی ہے اور قلم دے دیتی ہے۔ آپ نے بھی ایک موثر ترسیلی انجام دہی میں حصہ لیا۔ آپ (ترسیل کرنے والا) نے ایک پیغام (آپ کو ایک قلم کی ضرورت ہے) کی پیغام بندی کی اور اپنے دوست (ترسیلی کار B) کو اسے بھیجنے کے لیے ایک ذریعہ (آواز وہ پیدا کرنے والی ایک صورت) کا استعمال کیا۔ آپ کے دوست نے اپنے حسی عامل (کان) کا استعمال کرتے ہوئے پیغام وصول کیا اور اس کی کوڈ کشائی کی (یہ سمجھا کہ آپ کو ایک قلم کی ضرورت ہے) آپ کے دوست کا جوابی عمل (لفظ ”ہاں“ اور آپ کو قلم دینے کا مناسب طرز عمل) سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغام کو کامیابی کے ساتھ موصول کیا اور کوڈ کشائی کی۔ ترسیل مزید با اثر ہو سکتی تھی اگر وہ یہ کہتی ”معاف کیجیے میں نہیں دے سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ہی قلم ہے۔“

آپ کو یاد ہوگا کہ بولنا اپنے آپ میں ترسیل نہیں ہے۔ بولنا صرف ایک حیاتیاتی عمل ہے: آواز نکالنا، ممکنہ زبان کا استعمال کرنا۔ ترسیل ایک وسیع وسیلہ ہے اس میں دو یا زائد لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں مفہوم شامل ہوتے ہیں تاکہ پیغام کا مدعا ٹھیک اسی شکل میں موصول ہو جس شکل میں اسے بھیجا گیا ہے۔

باتیں کرنا

زبان کا استعمال کرتے ہوئے باتیں کرنا ترسیل کا ایک اہم جزو ہے۔ زبان میں معنی خیز اشاروں کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ اسے با اثر بنانے کے لیے ترسیل کرنے والوں کو زبان استعمال کرنے کے طریقوں کی معلومات ہونا ضروری ہے۔ چونکہ زبان اشارتی ہوتی ہے لہذا یہ ضروری ہے کہ الفاظ استعمال

مطلب نکالنے کی کوشش کریں دوسری بار آپ اس پر بحث کریں مثلاً جب آپ ہدایت وصول کر رہے ہوں یا جب اپنے دوست کے ساتھ حالت تصادم میں ہوں۔ بولنے والے کے سامنے اپنی سمجھ کو بتائیں جس کے بارے میں آپ نے ابھی سنا تھا تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ نے جو سنا اور سمجھا وہ صحیح ہے۔ آپ کو توجہ ہوگا کہ کئی بار تو غلط ترسیل کی وجہ سے تصادم ہوتے ہیں۔

مطلب تفویض کرنا

موصول ہوئے مہیج کو کچھ طے شدہ درجات میں رکھنے کا کام زبان کے سیکھنے کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ موصول ہوئے پیغام کی ترجمانی کی غرض سے ہمارے ذہنی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً لفظ پیپر کے لیے ہمارے درجاتی نظام میں ایسے عوامل شامل ہو سکتے ہیں جیسے کہ ڈیری پروڈکٹ، اس کا ایک مخصوص ذائقہ اور رنگ یہ سبھی ہمیں لفظ پیپر کا تعلق اس کے اصلی معنی سے کرانے میں مدد کرتے ہیں۔

سننے میں ثقافت کا کردار

دماغ کی طرح ہماری تہذیب جس میں ہم پلے بڑھے ہیں ہماری سننے اور سیکھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ ایٹائی تہذیب جیسے کہ ہندوستان اس بات پر زور دیتی ہے کہ بڑوں یا بزرگوں کے پیغامات کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ کچھ ثقافتوں میں زیر اختیار توجہ پر زور دیا جاتا ہے مثال کے طور پر بودھ مذہب کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ اسے چوکسی (mindfulness) کہا جاتا

توجہ کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس مرحلے میں دیگر مہیج گھٹتے ہیں تاکہ ہم مخصوص الفاظ یا اشاروں پر متوجہ ہو سکیں۔ عام طور سے آپ کی توجہ، آپ جو سننے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے آس پاس ہو رہا ہے اور جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے، کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ مان لیں آپ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں آپ کے سامنے جو شخص ہے وہ مسلسل اپنے دوست کے کان میں کچھ کہتا ہو۔ نظام آواز میں جھنجھٹا ہوا آپ اپنے آنے والے امتحان کے لیے بھی فکر مند ہوں۔ اس طرح آپ کی توجہ مختلف سمت میں مبذول ہوتی ہے۔

اعادہ مضمون

آپ کیسے سمجھیں گے کہ کوئی آپ کو سن رہا ہے؟ آپ ان سے کہیں کہ جو آپ نے کہا ہے اسے دہرائیں۔ وہ شخص ایسا کرتے وقت آپ کی باتوں کو ہو بہو نہیں دہرا پاتا ہے۔ وہ موصول شدہ خیالات کا ایک خلاصہ تیار کرتا ہے اور اپنی سمجھ کے مطابق اسے پیش کرتا ہے۔ اسے ہی اپنے لفظوں میں مطلب نکالنا (اعادہ مضمون) کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ترسیل کی گئی باتوں کو اس نے کتنا سمجھا۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کو نہ تو دہرا سکے اور نہ ہی اسے لکھ کر خلاصہ کر سکے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید پورا پیغام اسے موصول نہیں ہو رہا ہے اور وہ اسے سمجھ نہیں پایا۔ جب ہم کلاس میں استاد یا دیگر لوگوں کی باتوں کو سنیں تو اسے بھی دھیان میں رکھ سکتے ہیں۔

کوشش کریں کہ آپ نے جو سنا اس کا اعادہ ضرور کریں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اگر ممکن ہو جلد اس کی وضاحت کی درخواست کریں اور زبانی

باکس
9.3

آپ کے سننے سے متعلق مہارتوں میں بہتری کے لیے کچھ نسخے

- اسے تسلیم کریں کہ موثر ترسیل میں مرسل اور وصول کنندہ دونوں کی مساوی ذمہ داری ہوتی ہے۔
- ترسیل شدہ معلومات سے متعلق فیصلہ لینے میں جلد بازی نہ کریں۔ سبھی نظریات کے بارے میں کھلا ذہن رکھیں۔
- دھیان اور صبر کے ساتھ سنیں۔ جواب دینے میں جلد بازی نہ کریں۔
- ان کی باتوں سے بچیں، صرف وہ بات نہ کریں جو آپ چاہتے ہیں۔ دوسرے جو کہنا چاہتے ہوں اس کا بھی خیال رکھیں۔
- جذباتی جوابوں کے بارے میں احتیاط رکھیں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے زبان سے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
- دھیان رہے کہ آپ کا جسمانی انداز آپ کی سماعت کو متاثر کرتا ہے۔
- اختلال (توجہ) پر قابو رکھیں۔
- شبہ کی حالت میں اعادہ مضمون کی کوشش کریں اور پیچھے والے سے اس کی جانچ بھی کر لیں کہ کیا آپ نے صحیح سمجھا۔
- دھیان کریں کیا کہا گیا یعنی پیغام کو ایک ٹھوس کارکردگی کی شکل میں اتاریں۔

کے ظاہری حالات کے موازنے پر مبنی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے اور اسے آپ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوتا تو آپ کو تبدیلی کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ہم یاد کریں کہ کس بات چیت کو بڑھانے یا کم کرنے میں جسمانی زبان کا کتنا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جان بوجھ کر کسی دوست کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ متوجہ ہو۔ جسمانی زبان کا زیادہ تر استعمال دوسروں کے ساتھ لاشعوری تعلقات میں ہوتا ہے۔

ہے۔ اس کا مطلب ہے اپنی پوری توجہ کیے جا رہے اپنے کام پر مخصوص کرنا۔ چوکسی کی تربیت چونکہ بچپن میں ہی شروع ہوتی ہے توجہ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف بہتر سماعت بلکہ ہمدردانہ سماعت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حالانکہ بہت ساری تہذیبوں میں اس طرح بہتر سماعت کی صلاحیت کا مزاج نہیں ہے۔ باکس 9.3 میں سننے سے متعلق مہارتوں میں بہتری کے لیے بعض نسخے بتائے گئے ہیں۔

جسمانی زبان

کیا آپ مانتے ہیں کہ جب آپ کسی دیگر شخص کے ساتھ تریسل کرتے ہیں۔ تو آپ کے الفاظ پیغام کے پورے معنی کی تریسل کرتے ہیں؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ غلط فہمی میں ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بہت حد تک بغیر زبان ہی کے تریسل ممکن ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ غیر زبانی عمل علامتی ہوتا ہے اور چل رہی کسی بات سے قریبی طور پر جڑا ہوتا ہے۔ اس طرح کے غیر زبانی عمل اس چیز کا حصہ بنے جسے ہم اشاروں سے بات چیت یا جسم کی زبان کہتے ہیں۔

جسمانی بیان میں وہ سارے پیغامات الفاظ کو چھوڑ کر شامل ہوتے ہیں جسے لوگ استعمال کرتے ہیں جسمانی زبان پڑھتے وقت ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک اکیلے غیر زبانی اشارہ کا مکمل معنی نہیں نکلتا کچھ عوامل جیسے باؤ بھاؤ، چال ڈھال، آنکھوں کا ملانا، ہنسنے کا ڈھنگ اور جسمانی حرکت ان سبھی پر ایک ساتھ غور کرنا ہوگا۔ زبانی تریسل میں بھی غیر زبانی اشاروں کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہاتھوں کا سینہ پر بندھا ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص اکیلا رہنا پسند کرتا ہے۔ لیکن ہاتھ کے ساتھ اٹھنا عضلات کا سخت ہونا، جبرٹوں کا بیٹھا ہونا اور آنکھوں کا چھوٹا ہونا غصہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کس شخص کے برتاؤ کے حالیہ اور ماضی کے انداز کے درمیان توافقی، زبانی اور غیر زبانی تریسل کے درمیان ہم آہنگی کو منطبق ہونے کی کیفیت (Congruency) کہا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں ”آج آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں“ تو آپ کا اندازہ اس شخص کے آج کے ظاہری حالات اور اس کے ماضی

سرگرمی
9.2

تریسل میں غیر زبانی عمل کا مشاہدہ

اپنے خاندان کے لوگوں کا دھیان سے مشاہدہ کریں ان کے غیر زبانی طرز عمل یا جسمانی اشارات پر جب وہ کسی سے بات کرتے ہوں تو غور کریں۔ اب آپ اسی انداز میں اپنے خود کے غیر زبانی برتاؤ پر توجہ دیں۔ کیا آپ ان سے اور ان لوگوں کے غیر زبانی طرز عمل یا جسمانی زبان میں کوئی یکسانیت دیکھتے ہیں؟ اپنے کلاس میں لوگوں کو بتائیں۔

نفسیاتی جانچ کی مہارتیں

اہلیتوں کا اگلا مجموعہ جس کی ضرورت ماہرین نفسیات کو ہوتی ہے اس کا تعلق نفسیات کے علم کی معلومات پر مبنی ہے۔ اس میں نفسیاتی تشخیص، تعین قدر، انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل شامل ہے۔ 19 ویں صدی کے آخر میں گلٹن کے وقت سے ماہر نفسیات کی دلچسپی ہمیشہ سے انفرادی اختلافات کو سمجھنے میں رہی ہے۔ نفسیاتی جانچ وضع کی گئی اور بنیادی طور پر ان کا استعمال عام ذہانت میں انفرادی اختلافات تفرقی استعداد، تعلیمی حصولیابی، پیشہ ورانہ موزونیت، شخصیت، سماجی رویہ اور مختلف غیر علمی خصوصیات میں انفرادی فرق کا پتہ لگائے جانے اور تجزیے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نفسیاتی جانچ کا استعمال انفرادی تشخیص کے علاوہ اجتماعی طور پر مختلف نفسیاتی مطالعہ کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات ان فرقوں کا مطالعہ کرتے ہیں جو کچھ خاص اسبابی اجزا پر مبنی ہوتے

نفسیاتی تشخیص کی مہارتوں کی ضروری باتیں

نفسیاتی تشخیص ایک بنیادی صلاحیت ہے جس کی ضرورت ماہرین نفسیات کو ہوتی ہے۔ اس میں انٹرویو لینے، نفسیاتی جانچ اور نفسیاتی خدمات کے نتائج کے اندازہ، قدر پر مبنی افراد کی جامع اور مربوط تشخیص کی معلومات شامل ہیں۔ نفسیاتی تشخیص کے لیے ضروری مہارتیں درج ذیل ہیں۔

تشخیص کے متعدد طریقوں اور ذرائع کو اس طرح منتخب کرنے اور نافذ کرنے کی اہلیت جو مختلف افراد، جوڑے، خاندان اور گروپ کے لیے قابل فہم و قدر ہو۔

- فیصلہ لینے کے لیے درکار ڈیٹا جمع کرنے کے منظم نظریات کا استعمال کرنے کی صلاحیت۔
- نفس پیمائش سے متعلق امور اور طریقہ تشخیص کے بنیادی معلومات۔
- ڈیٹا کے مختلف ذرائع کو مربوط سے متعلق امور کی معلومات۔
- مختلف ذرائع سے حاصل تشخیص کو تشخیصی مقاصد کے لیے مربوط کرنے کی صلاحیت۔
- تشخیص کو وضع کرنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت: موجودہ تشخیصی نظریات کی قوتوں اور حدود کا سمجھنا۔
- مہارتوں کے استعمال سے بڑھانے کے لیے نگرانی موثر استعمال کی صلاحیت۔
- جو بھی کسی نفسیاتی جانچ کا استعمال کرتا ہے ایسی نفسیاتی جانچ میں پیشہ ورانہ، علمی صلاحیت اور تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ نفسیاتی جانچ کا استعمال جانچ مینوئل میں دی گئی معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری معلومات درج ذیل ہیں:
- جانچ کا مقصد یعنی کس کام کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے؟
- وہ آبادی جس پر ان کا استعمال کیا جاسکتا ہے۔
- جانچ سے متعلق جواز کی قسم یعنی کس بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ ایسی کی پیمائش کرتا ہے جس کی پیمائش کا یہ دعویٰ کرتا ہے۔
- جواز نامے کی بیرونی کسوٹی یعنی وہ میدان جس میں اسے عملی صورت میں پایا جاتا ہے۔
- معتبری کے اشاریات یعنی آنکڑوں میں کس حد تک غلطیاں ممکن ہیں؟
- معیار بندی نمونہ یعنی کب جانچ وضع کی گئی، کن لوگوں کی جانچ ہوئی مثلاً ہندوستانی، امریکی، دیہاتی، شہری، پڑھے لکھے یا جاہل وغیرہ؟
- جانچ کے بندوبست میں لگاؤ وقت۔
- شمار کے طریقے یعنی کس کا شمار کرنا ہے اور کون سے طریقے کا استعمال کرنا ہے؟
- معیار یعنی کس طرح کے موجود ہیں؟ کون سا مناسب گروپ ہے جس کا استعمال شام کی توجیح کے لیے کیا جائے مثلاً مرد عورت، عمر وغیرہ؟
- کن مخصوص عوامل کا اثر مثال کے طور پر دوسروں کی موجودگی، دباؤ، حالات وغیرہ۔
- جانچ کی کمزوری یعنی کون اور کیا اس کی جانچ نہیں ہو سکتی؟ وہ حالات جس میں اچھی تشخیص نہیں ہو سکتی۔

گار ہو سکتی ہے۔ یہ بات طے ہونی ضروری ہے کہ مختلف کارکردگی سطح کے ملازمین کے درمیان جانچ کے ذریعہ فرق کا پتہ چلے اس کے علاوہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کسی نئے ملازم جس کا انتخاب جانچ کی بنیاد پر ہوا ہے، کی کارگزاری اس کے جانچ کے شمار سے ملتی جلتی ہے۔

انٹرویو کی مہارتیں

انٹرویو دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان با مقصد بات چیت ہے جو بنیادی

ہیں جیسے پیشہ، عمر، جنس، تعلیم، تہذیب وغیرہ۔ نفسیاتی جانچ کا استعمال کرتے وقت معروضیت، کارویہ، سائنسی رخ اور معیار بند توجیح کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تنظیمی اور ذاتی کاموں میں، کاروبار اور کارخانوں میں جہاں کسی خاص نوکری کے لیے لوگوں کو منتخب کرنے کے لیے مخصوص جانچ کا استعمال ہوتا ہے، اصل کارگزاری ریکارڈ یا درجیات کا استعمال جانچ کی معقولیت کی شرط کے طور پر کیا جانا ضروری ہے۔ مان لیں شعبہ کا عملہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ایک اچھے امکانی باصلاحیت اسٹینوگرافر کی پہچان میں کوئی نفسیاتی جانچ مدد

لینے والا بات چیت کی شروعات کرتا ہے اور ابتدائی دور میں زیادہ باتیں وہی کرتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں یعنی اس سے انٹرویو کا مقصد طے ہوتا ہے اور انٹرویو دینے والا صورتحال کے علم کے ساتھ بے تکلف ہو جاتا ہے اور وہ انٹرویو لینے والے کے ساتھ بہتر محسوس کرتا ہے۔

انٹرویو کا مرکزی یا درمیانی حصہ

انٹرویو کا مرکزی حصہ اس کا قلب ہوتا ہے۔ اس مرحلہ میں انٹرویو لینے والا معلومات اور مواد حاصل کرنے کے لیے سوالات کرتا ہے جو کہ اس مقصد کے لیے ضروری ہے۔

سوالات کی ترتیب

انٹرویو کا مقصد حاصل کرنے کے لیے سوالات کا ایک سیٹ تیار کیا جاتا ہے جسے شیڈول بھی کہا جاتا ہے جو مختلف دائرہ اثر یا درجات کے لیے ہوتا ہے جس کا وہ احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انٹرویو لینے والے کو پہلے زمرات طے کرنے ہوتے ہیں جن کے تحت معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پر ملازمت کے لیے انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کا ذکر باکس

طور پر سوالات جوابات کی شکل میں ہوتی ہے۔ انٹرویو دوسرے زیادہ تر مذاکرات سے زیادہ رسمی ہوتا ہے کیونکہ اس میں پہلے سے مقاصد طے کر لیے جاتے ہیں اور اسی پر توجہ دی جاتی ہے۔ انٹرویو کی کئی اقسام ہیں۔ ملازمت کے لیے انٹرویو اس میں سے ایک ہے جس کا سامنا آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو ابھی کرنا ہے۔ اس کی دوسری قسمیں معلومات حاصل کرنے سے متعلق انٹرویو، مشاورتی انٹرویو، جانچ پڑتال سے متعلق انٹرویو، ریڈیو، ٹیلی ویژن انٹرویو اور تحقیقاتی انٹرویو ہیں۔

انٹرویو کی شکل

انٹرویو کے مقاصد طے ہو جانے کے بعد انٹرویو لینے والا انٹرویو کی شکل تیار کرتا ہے۔ کسی بھی مقصد کے لیے انٹرویو کی بنیادی شکل کو تین مرحلوں میں بانٹا گیا ہے۔ یعنی افتتاحی، مرکزی اور اختتامی اب ہم ان تین مرحلوں کو مختصر طور پر بیان کریں گے۔

انٹرویو کی شروعات

انٹرویو کی شروعات میں دو ترتیل کرنے والوں کے درمیان بہتر ربط قائم ہوتا ہے تاکہ انٹرویو دینے والا آرام دہ کیفیت میں ہو۔ عام طور سے انٹرویو

انٹرویو کے سوالات کی اقسام

باکس
9.5

براہ راست سوال: یہ نمایاں ہوتے ہیں اور اس کے تحت خاص معلومات درکار ہوتی ہیں مثلاً پہلے آپ نے کہاں کام کیا؟
غیر متعین سوال: یہ کم براہ راست ہوتے ہیں اور صرف موضوع کی صراحت کرتا ہے مثلاً آپ اپنی نوکری سے کتنے خوش تھے؟
متعین سوال: اس میں جواب کے متبادل فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ جواب میں اختلاف کم ہو۔ مثلاً کیا آپ کے خیال میں کسی پیداوار یا ترسیلی مہارت کی معلومات ایک سبزی مین کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟
دو قطبی سوال: یہ ایک طرح کا متعین سوال ہے اس میں ہاں یا نہیں میں جواب درکار ہوتا ہے مثلاً کیا کمپنی کے لیے کام کرنا چاہیں گے؟
ہم سوال: یہ کسی خاص جواب کے لیے آمادہ کرتا ہے مثلاً کیا آپ نہیں کہیں گے کہ آپ کی کمپنی میں یونین کا افسر ہونا چاہیے؟
منعکس سوال: انٹرویو لینے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا تھا اس پر روشنی ڈالے اور اس میں مزید توسیع کرے۔ مثال کے لیے، آپ نے کہا، ”میں نے اتنی محنت کی تھی لیکن کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا“ براہ کرم وضاحت کریں کہ ایسا کیوں واقع ہوتا ہے۔

انٹرویو کے سوال کے جواب دینا

- اگر آپ سوال نہیں سمجھ پاتے تو اس کی وضاحت کے لیے کہیں۔
- اپنے جواب میں سوال کو دہرائیں۔
- ایک بار میں ایک ہی جواب دیں۔
- منفی سوالات کو اثباتی جواب میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔

کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ منفی جذبات کو فروغ دے سکتا ہے۔ وہ احساس کم تری میں مبتلا ہو سکتا ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی پریشانیوں دوسروں پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ ٹھیک اس کے برعکس اگر کوئی شخص اس طرح کا پیشہ اپناتا ہے جس کے لیے اس میں مطابقت ہو تو اسے اپنے کاموں کو اچھی طرح کرنے میں تسلی ہوتی ہے۔ اس طرح کے اثباتی احساس کا مطابقت پر پوری زندگی میں زبردست اثر پڑتا ہے۔ مشاورت بھی اسی طرح کا ایک حلقہ ہے جس میں اگر کوئی شخص داخل ہوتا ہے تو اسے مشاہدے باطن میں مصروف رہنے کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کے اپنے پیشہ سے متعلق اسے با اثر بنانے کے لیے اس کے میلانات اور بنیادی مہارتوں کی تشخیص ہو سکے۔

مشاورت کا مطلب اور نوعیت

مشورہ یا صلاح کاری، انٹرویو کی منصوبہ بندی کے لیے صلاح کار معمول کے طرز عمل کے تجزیے کے لیے اور مریض پر فلاحی تاثرات کے تعین کے لیے ایک نظام فراہم کرتا ہے۔ اس سیشن میں ہم مہارتوں، تصورات اور طریقہ کار پر بحث کریں گے جسے ایک قوی صلاحیت کے فروغ میں مدد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ایک مشیر کار کی زیادہ دلچسپی مریض کے مسائل سے متعلق سمجھ پیدا کرنے میں ہوتی ہے جس کے لیے وہ اس بات پر توجہ دیتا ہے کہ مریض کو اپنے مسائل کے بارے میں کیا سمجھ ہے اور وہ اس کے متعلق کیسا محسوس کرتا ہے۔ مسائل کی اصل حقیقت کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ مریض کے


9.5 میں کیا گیا ہے۔ انٹرویو لینے والا مختلف زمرا کے سوال منتخب کرتا ہے جیسے اس تنظیم کی نوعیت جہاں اس نے پہلے کام کیا ہے۔ پچھلی ملازمت سے تنفی کے بارے میں، شے کے بارے میں خیالات وغیرہ۔ یہ زمرا اور سوالات اپنے آپ میں اس طرح تیار کیے جاتے ہیں کہ اس کا جواب شروع میں آسان لیکن آگے چل کر مشکل ہوتا جاتا ہے۔ سوالات کی وضع حقیقت جاننے کے ساتھ ساتھ اندرونی تشخیص کے لیے کی جاتی ہے۔

انٹرویو کا اختتام

انٹرویو کے اختتام پر انٹرویو لینے والے کو حاصل کی گئی معلومات کا خلاصہ تیار کرنا چاہیے۔ اسے آخری مرحلے پر بات چیت کر کے اسے ختم کرنا چاہیے۔ انٹرویو ختم ہونے کے وقت انٹرویو لینے والے کو یہ چاہیے کہ وہ انٹرویو دینے والے کو سوال پوچھنے اور تبصرہ پیش کرنے کا موقع دے۔

مشاورتی مہارتیں

ایک ماہر نفسیات ہونے کے لیے دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس شخص میں مشاورتی اور رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہو۔ ان صلاحیتوں کو فروغ کے لیے ماہرین نفسیات کو رہنمائی کرنے والے نگراں کی دیکھ رکھ میں تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ غلط پیشہ میں جانے کے بڑے ہی شدید نتائج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایسے پیشے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے لیے اس کے پاس ضروری استعداد نہ ہو تو اسے مطابقت کے شدید مسائل کا سامنا



شکل 9.2: صلاح کاری کے عمل کی بنیادی ضرورت

تاثراتی تعلقات میں اضافہ

زیادہ تر لوگ جو صلاح کار سے مدد چاہتے ہیں ان کے اثر آفریں اور اطمینان بخش رشتے تقریباً موجود نہیں ہوتے یا کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ چونکہ برتاؤ میں تبدیلی اکثر سماجی تعاون کے ایک نظام کے ذریعہ واقع ہوتی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ معمول دیگر لوگوں کے زیادہ مثبت تعلق کو فروغ دینا شروع کرتے۔ صلاح کاری تعلقات اس کی شروعات کے لیے ابتدائی ذریعہ ہے۔ ہم سبھی کی طرح مشیر کار بھی مکمل نہیں ہوتے۔ لیکن انہیں دوسروں کے ساتھ صحت مندرامدادی تعلقات قائم کرنے کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔

مختصر اگر صلاح کاری میں عام طور سے مریضوں کے لیے سبھی مشتمل نتیجے شامل ہوتے ہیں۔ مؤثر کرداری تبدیلی جو مریض میں ہوا کرتی ہے وہ کثیر پہلوی ہوتی ہے۔ اس کا مظاہرہ کسی مریض میں زیادہ ذمہ داری اختیار کرنے، نئی سوجھ بوجھ کو فروغ دینے، طرز عمل میں مصروف رہنا سیکھنے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

سرگرمی 9.3

اعادہ مضمون

اس سرگرمی کے لیے A, B, اور C تین طلبہ کی ضرورت ہے۔

A ایک مشیر کار کی حیثیت سے کام کرے گا جو سننے کی مشق کرے گا۔ اس کا کام سننے ہوئی باتوں کو مریض سے مختلف لفظوں میں دہرانا۔ A صرف بولی گئی باتوں کو ہی نہیں سننے گا بلکہ باتیں کس طرح کی گئی (زبانی جسم) اور اس کے پیچھے کیا جذبہ تھا یہ بھی سننے گا۔

B کچھ مسائل کے بارے میں A کو بتائے گا جس کا سامنا اسے بعد کی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔

C ایک مشاہدہ کی طرح کام کرے گا اور یہ جائزہ لے گا کہ A کتنا بہتر سننے والا ہے۔

A اور B آپس میں لگ بھگ 10 منٹ بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد C اپنا مشاہدہ بتائے گا۔

A بھی B کی ترسیل کے بارے میں A اور C کے ساتھ اس کے مشاہدے میں شامل ہوگا۔

بازرسانی نشست 10 منٹ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد لوگوں کے کردار بدل جائے ہیں تاکہ سبھی تینوں لوگوں کو تینوں رول کرنے کا موقع مل سکے، سرگرمی کے آخر میں سیکھی گئی باتوں کا خلاصہ کرنا پڑتا ہے۔

احساسات اور معلومات پر کام کرنا زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو جہاں اس شخص کے ذریعہ مسائل کے بارے میں دیے گئے بیانات پر ہوتی ہے۔

صلاح کاری میں رشتہ میں معاونت شامل ہے جس میں مدد چاہنے والے اور مدد دینے والے اس پس منظر میں مدد کے اہل ہوں یا اس کے لیے تربیت یافتہ ہوں، دونوں میں شامل ہوتے ہیں (تصویر 9.2 دیکھیے)۔

صلاح کاری کے ضمن میں یہ نکات عام طور پر شامل کیے جاتے ہیں:

1. صلاح کاری میں مریض کے احساسات، افکار اور افعال کے تئیں جواب دہی شامل ہے۔

2. صلاح کاری میں مریض کے ادراک اور احساس کو بغیر کسی تشخیصی معیار کے بنیادی قبولیت شامل ہے۔

3. رازداری اور اخفا صلاح کاری پس منظر میں ضروری اجزا کی تشکیل کرتے ہیں۔ طبیعی سہولیات جو اس معیار کو محفوظ رکھتی ہے اہم ہے۔

4. صلاح کاری ایک رضا کارانہ کام ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک مریض کسی مشیر کار سے رابطہ قائم کرتا ہے۔ مشیر کار معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالتا۔

5. مشیر کار اور مریض دونوں ہی اس کام میں زبانی اور غیر زبانی پیغامات حاصل کرتے ہیں پیغامات کی نوعیت کی معلومات اور احساس پذیری مشیر کار کی اثر پذیری کے لیے لازمی شرط ہے۔

صلاح کاری سے منسلک غلط فہمیوں کو دور کرے

- مشورے صرف معلومات دینے کو نہیں کہتے ہیں۔
- مشورے میں صرف صلاح دینا شامل نہیں ہے۔
- مشورے کسی فرد کو ملازمت یا پڑھائی کے لیے منتخب کرنا اور امداد ملازمت نہیں ہے۔
- مشورہ انٹرویو کی طرح نہیں ہوتا اگرچہ انٹرویو اس میں شامل ہو سکتا ہے۔
- مشورہ میں رویہ، عقیدہ اور طرز عمل کو سمجھا کر، دھمکا کر یا مجبور کر کے یا منکر نہیں کیا جاتا ہے۔

موثر مددگار کی خصوصیات

تربیت یافتہ مددگار ہونے کے سبب مشیر کار کو یہ یقینی بنانے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مریض کو مشورہ سے فائدہ پہنچا اور معالجاتی اثرات حاصل ہوئے۔ بہر حال عام طور سے صلاح کاری عمل کی کامیابی مہارت سے ہوتی ہے۔ معلومات، رویہ، ذاتی خوبیوں اور مشیر کار کے طرز عمل پر منحصر ہوتی ہیں اس میں سے کوئی یا سبھی، امدادی کام کو بڑھایا یا گھٹایا جاسکتا ہے۔ اس سیکشن میں ایک بااثر مشیر کار سے متعلق چار خوبیوں کا ہم ذکر کریں گے (I) استنادیت (II) دوسروں کے لیے مثبت سوچ (III) ہم احساس کی صلاحیت (IV) اعادہ مضمون۔

اب ہم ان خوبیوں کو اختصار میں سمجھیں گے۔

(i) استنادیت: اپنے بارے میں آپ کی شبیہ ادراک آپ کی ان کی تشکیل کرتا ہے۔ خود کی 'انا' خیالات الفاظ و افعال پہنچانے کے طریقے کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سبھی آپ کو 'انا' میں، کو دوسروں کو ترسیل کرتے ہیں۔ وہ جو آپ کے بہت قریبی ربط میں ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں ایک شبیہ قائم کرتے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی ایسی شبیہ کو آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوست آپ سے متعلق اچھی بری باتیں آپ سے کہہ دیتے ہیں، آپ کے اساتذہ اور والدین آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ کا اندازہ وہ لوگ بھی لگاتے ہیں جن کی آپ تعظیم کرتے ہیں لوگوں کے اس طرح کے اجتماعی فیصلے جن کی آپ تعظیم کرتے ہیں، مختص یا ممتاز کہا جاتا ہے وہ بھی فروغ دیتے ہیں۔ تاکہ آپ کو ادراک ہو سکے کہ مجھے وہ 'مرد ہے جو دوسرے آپ کو یہ سمجھتے ہیں۔ دوسروں کا یہ ادراک آپ کے اپنے ادراک 'انا' جیسا ہو سکتا ہے یا اس سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جس قدر آپ کو دوسروں کے ان ادراک اور آپ کے اپنے ادراک کی واقفیت ہوتی ہے وہ آپ کی باخبری کو بتاتی ہے۔ استنادیت کا مطلب آپ کا کرداری اظہار آپ کی قدر اور آپ کے اپنے احساس سے ملتا جلتا ہے اور اس کا تعلق آپ کی اندرونی خود شبیہ سے ہے۔

(ii) دوسروں کے لیے مثبت سوچ: ایک صلاح کاری اور مشیر کار کے تعلقات میں ایک اچھا رشتہ اظہار خیال کی آزادی فراہم کرتا ہے۔ یہ ان خیالات کی قبولیت پر منعکس ہوتا ہے، وہ یہ کہ دونوں کے احساسات انہم ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی نیا رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہمیں غیر یقینی حالت اور اندیشہ کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح کے احساسات تب کم ہوتے ہیں جب مشیر کار مریض کی یہ کہہ کر مدد کرتا ہے کہ آپ جس طرح محسوس کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسروں کے تئیں مثبت سوچ کے اظہار کے لیے درج ذیل باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔

- (1) جب آپ بولتے ہوں تو 'میں' یا 'انا' کا پیغام دینے کی عادت ڈالیں نہ کہ 'آپ' کا پیغام، اس کی مثال ہوگی 'میں' سمجھتا ہوں نہ کہ 'آپ' کو نہیں چاہیے۔
- (2) دوسرے کی کہی ہوئی باتوں کی جانچ کرنے کے بعد جواب دیں۔
- (3) دوسروں کو ان کے احساسات اور دیگر باتیں بتانے کی آزادی دیں۔ اس میں مداخلت یا کاٹ چھاٹ نہ کریں۔
- (4) یہ فرض نہ کریں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں دوسرے اسے جانتے ہیں۔ پس منظر کے مطابق اپنے آپ کو ظاہر کریں یعنی زبانی تبادلہ خیال کے پس منظر میں ہوں۔
- (5) نہ تو خود کو نہ دوسروں کو کوئی نام دیں (مثلاً آپ ایک دروں بین ہیں وغیرہ)

(III) ہم احساس ہونا یہ ایک بہت ہی اہم صلاحیت ہے جسے ایک مشیر کار میں ہونا ضروری ہے۔ آپ باب 5 میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ ہم احساس ہونا مشیر کار کی وہ صلاحیت ہے جس سے وہ دوسروں کے احساسات کو اسی پس منظر میں سمجھ پاتا ہے۔ یہ دوسروں کے جوتے میں گھسنے اور ان کی تکلیف کو سمجھنے کی ایک کوشش کی طرح ہے۔ ہمدردی اور ہم احساس ہونے میں فرق ہے۔ ہمدردی میں آپ ایک نجات دلانے والے کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے۔

اپنے خوف سے دوچار ہونا

اس سرگرمی کو اجتماعی طور پر کیا جاسکتا ہے۔ ہر ایک شخص بغیر اپنا نام ظاہر کیے اپنے سب سے بڑے خوف، شک یا اندیشہ کے بارے میں کسی کاغذ پر لکھتا ہے۔ ہر ایک شخص کے لکھنے کے بعد کاغذ کے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے ایک ٹوکری میں رکھا جاتا ہے۔ اب ہر ایک شخص باسکٹ میں سے ایک ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور اس میں لکھے خوف کے بارے میں زور سے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد پورا گروپ خوف کی نوعیت خوف کے رہنے کی ممکنہ وجوہات، متعلقہ شے جس کا تعلق خوف پیدا کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اس سے نجات پانے کے بہر طریقہ وغیرہ پر بحث کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کام کو تب تک دوہرایا جاتا ہے جب تک ٹوکری کے سبھی کاغذ کو ایک ایک کر کے پڑھ نہ لیا جائے۔ اس کے آخر میں آپ کو درج ذیل باتوں کی جانچ کرنی چاہیے کہ:

- اس سرگرمی نے آپ کو اپنے بارے میں بہتر طور پر سمجھنے میں مدد کی ہے۔
- خوف کے علاوہ کون سے دیگر عناصر خود پر آگاہی کے عمل میں بھی اشتراک کریں گے۔
- اس وقت آپ کو کیسا لگا جب کوئی آپ کے خوف کے بارے میں پڑھ رہا تھا؟

IV) **اعادہ مضمون** اس مہارت کے بارے میں بحث پہلے ہی اس سیشن میں ترسیل کے دوران ہو چکی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا تعلق مشیر کار کی اس صلاحیت سے ہے جس کے تحت وہ مریض کے جذبات اور ان بیانات پر عکس ڈالتا ہے جسے وہ مختلف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

کلیدی اصطلاحات

اطلاقی نفسیات، تشخیصی مہارت، قومی مہارت، صلاحیت، مشورہ، اخلاقیاتی مشاہدہ، درون افراد آگہی، مداخلت اور صلاح کاری مہارتیں، معرفیت، کھلا ذہن، مسائل کے حل کی مہارت، نفسیاتی تشخص، نفسیاتی جانچ، نظری مہارتیں، خود آگاہی، احساس پذیری، بھروسہ مندی۔

مشاورتی اخلاقیات

حالیہ سالوں میں صلاح کاروں نے اپنی پیشہ ورانہ پہچان بڑھانے کی غرض سے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ کسی بھی پیشہ ور گروپ کی ایک تنقیدی کسوٹی ہے کہ وہ ایک اخلاقی معیار قائم کرے اور اسے نافذ کرے۔ سماجی کارکن شادی کے مشیر کار، خاندانوں کے معالج اور ماہر نفسیات سبھی کے اخلاقی اصول ہوتے ہیں۔ اخلاقی معیار اور اصول سے باخبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ مشورہ خد ماتنی شعبے کا ایک حصہ ہے۔ اخلاقی معیار کو نظر انداز کرنے پر قانونی الجھنیں آسکتی ہیں۔

کسی مشیر کار کی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے امریکی نفسیاتی تنظیم (APA) نے حقیقی طبی ماحول میں کردار اور فیصلہ سازی سے متعلق ایک اخلاقی اصول کارکردگی وضع کیا ہے۔ جن کی عملی معلومات مشاورتی کام کے مقاصد حاصل کرنے میں ان کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ کام سے متعلق APA دکھائے گئے کچھ طریقے درج ذیل ہیں:

- اخلاقی، پیشہ ورانہ اصول، معیارات اور رہنما اصولوں کی معلومات؛
- قانون، اصول، ضوابط، نفسیاتی خدمات سے متعلق قانون کی جانکاری۔
- طبی ماحول میں مختلف پیشوں میں قانونی اور اخلاقی امور کو جاننا اور تجزیہ کرنا۔
- طبی ماحول میں کام کرنے اور خود کے رویہ کے اخلاقی پہلوؤں کو جاننا اور سمجھنا۔
- اخلاقی امور سے متعلق مناسب پیشہ ورانہ ادعا عایت کا عمل۔
- اخلاقی امور کا سامنا کرتے وقت مناسب معلومات اور صلاح کی جستجو کرنا۔

- ایک زیادہ جو ابدہ اور اخلاقیاتی انداز میں کام کرنے کے لیے ماہرین نفسیات کے لیے بنیادی صلاحیتوں سے متعلق عام و خاص مہارتیں ضروری ہیں۔
- عام ہنرمندی میں ذاتی اور ذہنی مہارتیں شامل ہوتی ہیں۔ مہارتیں کبھی پیشہ ور ماہرین نفسیات کے لیے ضروری ہیں چاہے وہ طبی ماحول اور صحت سے متعلق نفسیات کے میدان میں کام کر رہے ہوں۔ صنعتی، تعلیمی، سماجی، تعلیمی یا ماحولیاتی ترتیب میں کام کر رہے ہوں یا صلاح کار کی حیثیت سے کام کر رہے ہوں۔
- مخصوص مہارتیں نفسیاتی خدمات کے لیے بنیادی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر طبی ماحول میں کام کرنے والے ماہرین نفسیات کو مختلف معالجاتی طریقہ، نفسیاتی تشخیص اور صلاح کاری کے شعبہ میں تربیت کی ضرورت ہے۔
- ایک بااثر ماہر نفسیات ہونے کے لیے چند خصوصیات جیسے صلاحیت، اخلاقی بلندی، پیشہ ورانہ اور سائنسی ذمہ داری، لوگوں کے حقوق اور وقار وغیرہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
- مشاہداتی مہارتیں بنیادی مہارتیں ہوتی ہیں اور ایک ماہر نفسیات اس کا استعمال طرز عمل سے متعلق سوچہ بوجھ پیدا کرنے میں بنیادی نکتہ کے طور پر کرتا ہے۔ فطرتی مشاہدہ، شرکتی مشاہدہ اور مشاہدہ کے دو اہم نظریے ہیں۔
- تزییل ایک عمل ہے جو باتوں کو ایک انسان سے دوسرے انسان تک پہنچاتا ہے۔ بولنا اور سننا بین الافراد تزییل کے لیے بنیاد ہیں۔
- تزییل کے لیے زبان اہم ہے اس کا استعمال سامعین کی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ غیر زبانی اشارے جیسے ہاؤ بھاؤ، بیٹھنے کا سلیقہ، ہاتھوں کی حرکت وغیرہ کا استعمال بھی خیالات کی تزییل کے لیے کیا جاتا ہے۔
- مناسب پیغام وضع کرنا، ماحولیاتی شور و غل سے نمٹنا اور معلومات فراہم کرنا، بگاڑ کو کم کرنے اور تزییل کو موثر بنانے کے طریقے ہیں۔
- انٹرویو ایک روبرو تزییل عمل ہے۔ یہ تین مرحلوں میں ہوتا ہے جس میں ذہنی تیاری (شروعاتی مرحلہ) سوال و جواب (انٹرویو کا جسم) اور اختتامی مرحلہ شامل ہیں۔
- نفسیاتی جانچ کی مہارت میں اضافہ بہت ہی اہم ہے۔ چونکہ یہ جانچ مختلف مقاصد کے لیے انفرادی تشخیص میں کام آنے والا ایک اہم ذریعہ ہے لہذا اس کے نفاذ کے شمار اور توثیق کے لیے مناسب تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔
- مشورہ میں امدادی تعلقات شامل ہوتے ہیں جس میں ایک مدد چاہنے والا اور ایک مدد کا فراہم کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک بااثر صلاح کاری خوبیاں ہیں۔ (i) استنادیت (ii) دوسروں کے لیے مثبت سوچ (iii) ہم احساس ہونا (iv) اعادہ مضمون۔

اعادہ کے سوالات

1. ایک بااثر ماہر نفسیات کے لیے کون کون سی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟
2. وہ کون کون سی عام مہارتیں ہیں جو کبھی ماہر نفسیات کے لیے ضروری ہیں؟
3. تزییل کی تعریف کریں۔ تزییل عمل کے کون سے اجزا زیادہ اہم ہیں۔ متعلقہ مثالوں کے ساتھ اپنے جواب کا جواز پیش کیجیے۔
4. وہ مجموعہ صلاحیت بتائیں جسے ایک نفسیاتی جانچ کے وقت ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔
5. صلاح کاری انٹرویو کی مثالی وضع کیا ہے؟
6. آپ اصلاح کاری سے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک بااثر صلاح کاری کی خصوصیات بیان کریں۔
7. ایک بااثر صلاح کار ہونے کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟
8. مریض اور صلاح کار کے درمیان تعلقات میں اخلاقیاتی باتیں کیا کیا ہیں؟
9. اپنے دوست کی زندگی کے کسی ایک پہلو کی شناخت کریں جسے وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ نفسیات کے ایک طالب علم کی حیثیت سے ان مخصوص طریقوں کے بارے میں سوچیں جس میں آپ ایک پروگرام مرتب کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے دوست کو اس سے بہتری میں یا اس کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد ملے۔

1. نفسیات کے 3-4 الگ الگ میدانوں کی پہچان کریں مثلاً آپ ایک ماہر طبی نفسیات، ایک صلاح کار یا ایک ماہر تعلیمی نفسیات کو منتخب کر سکتے ہیں۔ ان کے کیے جانے والے کاموں اور مہارت جن کا استعمال کرتے ہیں، کے بارے میں معلومات حاصل کریں آپ ایک سوال نامہ تیار کر سکتے ہیں اور ان سبھی کے ساتھ انٹرویو کر سکتے ہیں تاکہ ان کے کام سے متعلق صلاحیتوں کی پہچان ہو سکے۔ ایک رپورٹ تیار کریں اور جماعت میں بحث کریں۔
2. ماہر نفسیات کی صلاحیتوں میں سے کسی ایک ہنرمندی کو چنیں۔ اس مہارت سے متعلق اصولی اور عملی معلومات حاصل کریں۔ ان معلومات کے بنا پر مہارت میں اضافہ کے لیے اقدامات کی تجویز پیش کریں۔ کلاس میں بحث کریں۔



www.allpsych.com

www.library.unisa.edu.au/resources/subject/counsel.asp



تعلیمی اشارات

1. طلباء سے زندگی کے مختلف شعبہ میں نفسیات کے بڑھتے ہوئے استعمال کے بارے میں تبادلہ خیال کے لیے کہا جاسکتا ہے۔
2. طلباء سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے والے ماہرین نفسیات کے لیے ممکنہ ضروری صلاحیت اور مہارتوں کے بارے میں بھی سوچنے کے لیے کہا جاسکتا ہے۔
3. اختراعی طریقوں جیسے حالات کا بیان، کرداری خاکہ اور کرداری ڈرامے کے مظاہرے کے لیے موثر سماعت، اعادہ مضمون وغیرہ خاص طور سے مددگار ہوگا۔

نفسیات میں پریکٹیکل کے لیے رہنما اصول

نفسیاتی آزمائش لازمی طور پر ایک معروضی اور برتاؤ کے نمونے کی معیار بند پیمائش ہے۔ بارہویں جماعت میں آپ ذہانت اور استعداد (باب 1)، شخصیت اور تصورات (باب 3) اور رویہ (باب 6) کے تصورات کے بارے میں سیکھیں گے۔ آپ کو ان شعبوں میں نفسیاتی آزمائشوں کے انتظامیہ کے ذریعہ تخلیق کیے گئے کردار، ڈاٹا کے شمار اور تشریح کرنے کی اہلیت کو فروغ دینے میں پریکٹیکل ٹریننگ بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں پریکٹیکل ٹریننگ آپ کے لیے انسانی کردار جیسے ذہنی دانش وری قابلیت، ہمہ گیر خاکہ شخصیت، مخصوص رویوں، تطابق یا سازگاری، رویاتی خاکہ، تصورات اور تشویش کی سطح کے لیے امکانی صلاحیت مختلف پہلوؤں کی تشخیص میں مددگار ہوگی۔

آزمائش یا جانچ کے لیے انتظام

نفسیاتی آزمائش کی صحت، جانچ کی حالت، مواد، طریقہ عمل، معیارات اور اصول جو جانچ کو فروغ دینے کے ایک لازمی جزو کی تشکیل کرتے ہیں، کی معیار بندی سے پیدا ہوتی ہے اس عمل میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ طلبا جانچ اختیار کنندہ کے ساتھ ربط قائم کرنے کو فروغ دیں گے تاکہ نسبتاً نئے اور مختلف سیاق میں وہ ان کے ساتھ آسانی محسوس کر سکیں۔ ربط قائم کرنے میں جانچ کنندہ کی دلچسپی کو ابھارنے، ان کے تعاون کو سامنے لانے اور جانچ کے مقاصد کے لیے موزوں انداز میں جوابی عمل کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوششیں شامل ہیں۔ رابطہ قائم کرنے کا خاص مقصد جواب دہندگان کو پورے طور پر اور باریک بینی کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہدایات کی تعمیل کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ اس بات پر یہ بھی غور کیا جاسکتا ہے کہ جانچ کی نوعیت (جیسے فرد یا گروپ، لفظی یا غیر لفظی وغیرہ) اور جانچ کے اختیار کنندگان کی عمر اور دیگر خصوصیات سے ربط قائم کرنے کے لیے مخصوص تکنیکوں کے استعمال کا تعین کرتے ہیں۔ مثال کے لیے تعلیمی طور پر سہولیات سے محروم پس منظر کے بچوں کی جانچ کے وقت جانچ کرنے والا یہ فرض نہیں کر سکتا کہ عملی

فرد کے برتاؤ کے مخفی پہلوؤں کے آشکار کرنے میں نفسیاتی لوازم کار اور تکنیکیں مددگار ہوتی ہیں۔ اس طرح یہ انسانی برتاؤ کو سمجھنے، پیش گوئی کرنے اور کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہی نفسیات کا بنیادی مقصد ہے۔ نفسیات میں پریکٹیکل کا مقصد طلبا کو انسانی برتاؤ کی فہم حاصل کرنے میں نفسیاتی لوازم کار اور تکنیکوں میں مطلوبہ علم اور مہارت فراہم کرنا ہے۔ اس میں پیمائش کے مقدر ای لوازم کار جیسے معیار بند نفسیاتی آزمائشوں اور صفاتی ذرائع جیسے انٹرویو اور مشاہدہ دونوں کے ساتھ طلبا کو براہ راست تجربہ فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پریکٹیکل عمل کے ذریعہ آزمائش کے اصول پر مبنی ہوتے ہیں اور اس طرح ان کے ذریعہ طلبا جو کچھ نفسیاتی اصول اور نظریات سیکھتے ہیں انہیں عمل میں لانے کا موقع دستیاب ہوتا ہے۔

پریکٹیکل کام اختیار کرنے سے پہلے یہ یقینی بنانا ہم ہے کہ طلبا کو نفسیات میں تحقیق کے مختلف طریقوں، ان کی خوبیوں اور کمیوں سے متعلق کرداری خصوصیات کے تعین کیے جانے، نفسیاتی آزمائشوں کی فطرت اور استعمال اور اخلاقی رہنما اصول کے بارے میں علم حاصل ہو، تاکہ ان کے غلط استعمال سے بچا جاسکے۔ بارہویں جماعت کے لیے نفسیات کے نصاب کو ذہن میں رکھتے ہوئے طلبا کو نفسیاتی آزمائشوں میں پریکٹیکل کا عمل انجام دینا چاہیے جس میں مختلف دائرہ عمل جیسے ذہانت، شخصیت، استعداد، تطابق، رویہ، تصور، ذات اور تشویش میں معیار بند نفسیاتی آزمائشوں کا استعمال کرنا شامل ہوتا ہے۔ انہیں ایک انفرادی کیس خاکہ بھی تیار کرنا ہوتا ہے جس میں فرد (کیس) کی نشوونما کا احوال مقداری اور صفاتی انداز دونوں کا استعمال کرنا شامل ہوگا۔

1. نفسیاتی آزمائش

نفسیاتی آزمائشوں کے استعمال میں پریکٹیکل کام ٹیچر کی رہنمائی اور نگرانی میں انجام دیا جانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے گیارہویں جماعت میں مطالعہ کیا ہے کہ

کاموں میں زیادہ بہتر کرنے کے لیے ان کا محرک کیا ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں جانچ کرنے والا انہیں متحرک کرنے کے لیے ربط قائم کرنے کی خاص کوشش کرتا ہے۔

ربط قائم کرتے وقت جانچ کا منتظم کار جانچ کے مواد کی رازداری کے بارے میں بھی جانچ کے اختیار کنندگان کو مطلع کرتا ہے۔ جانچ کے اختیار کنندہ کو جانچ کے مقصد اور جانچ کے نتائج کے استعمال کے بارے میں بھی اطلاع دیتا ہے۔ جانچ کے اختیار کنندہ کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ ایسے نتائج کو پوری طرح راز میں رکھا جائے گا اور تیسرے فرد (جانچ کے منتظم کار اور جانچ کے اختیار کنندہ کے علاوہ) کو صرف جانچ کے اختیار کنندہ کے علم اور مرضی کے بعد ہی فراہم کیا جائے گا۔

لہذا جانچ کا انتظام پیشہ ورانہ طور پر تربیت یافتہ اور ماہر فرد کا کام ہے درج ذیل نفاذ کو جانچ کرتے وقت ذہن میں رکھا جاسکتا ہے۔

• یکساں جانچ کی حالت: بنیادی طور پر نفسیاتی آزمائشوں کا کام افراد کے درمیان یا مختلف مواقع پر اس فرد کے جوابوں کے درمیان فرق کی پیمائش کرنا ہے۔ اگر مختلف افراد کے ذریعہ شمار حاصل کیا جاتا ہے تو ان کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ جانچ کی حالتیں اور شرائط یقیناً سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے۔ جانچ کے لیے مناسب کمرے کے انتخاب پر بھی خصوصی توجہ دی جانی چاہیے جو غیر ضروری شور اور ذہنی بھڑکاؤ سے پاک ہونا چاہیے۔ اس کمرے میں جانچ اختیار کنندہ کے لیے مناسب روشنی، روشن دان، بیٹھنے کی سہولیات وغیرہ ہونی چاہیے۔

• معیار بند ہدایات: جانچ کی شرائط میں یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے جانچ کے منتظم کار کو جانچ کے انتظام کے لیے تفصیلی ہدایات فراہم کی جانی چاہئیں۔ معیار بند ہدایات میں استعمال کے لیے صحیح مواد، وقت کی حد (اگر کوئی ہو) موضوعات کے سلسلے میں زبانی ہدایات، موضوعات سے متعلق سوالنامے کو برتنے کے طریقے اور جانچ کی صورت حال کی دیگر ممکنہ تفصیلات شامل ہونی چاہئیں۔

• جانچ کے منتظم کار کی تربیت: جانچ کا منتظم کار وہ فرد ہے جو جانچ کا انتظام کرتا ہے اور جانچ کے لیے نمبر دیتا ہے۔ تربیت یافتہ جانچ کے منتظم کی اہمیت تو ظاہر ہے۔ اس لیے اگر جانچ کار مناسب اہلیت نہیں رکھتا تو غلط نمبر دینے کا معاملہ جانچ کے اسکور کو بے کار بنا سکتا ہے۔

کوئی بھی معیار بند جانچ ہدایت نامہ (مینٹل) کے ذریعہ عمل میں آتی ہے جس میں جانچ کی نفسیاتی پیمائش، معیارات اور حوالہ جات شامل ہوتے ہیں۔ اس سے جانچ کے انتظام کے طریقہ عمل کے شمار کرنے کے طریقے اور جانچ میں لگنے والے وقت کی حدود (اگر کوئی ہو) کا واضح طور پر اظہار ہوتا ہے۔

جانچ کی پوری سمجھ، جانچ کے اختیار کنندہ اور جانچ کی شرائط، جانچ کے شمار کی مناسب تشریح کے لیے ضروری ہے۔ ہدایت نامہ میں دی گئی جانچ کے بارے میں کچھ معلومات جیسے اس کا اعتبار، جواز، معیار وغیرہ، کسی بھی جانچ اسکور کی توضیح سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح جانچ کیے جانے والے (جانچ اختیار کنندہ) فرد کے بارے میں بعض پس منظر ذرائع بھی ضروری ہیں۔ مثال کے لیے مختلف اسباب کی بنا پر مختلف افراد کے ذریعہ وہی اسکور حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ لہذا ایسے اسکوروں سے اخذ کیے گئے نتائج ممکن ہے ایک جیسے نہ ہوں۔ آخر میں خاص عوامل کو بھی کچھ سامنے رکھنا چاہیے جو کسی مخصوص اسکور پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ خلاف معمول جانچ کی حالت، موضوع کی عارضی جذباتی یا طبعی حالت، اختیار کنندہ کا جانچ وغیرہ کے سلسلے میں سابقہ تجربہ۔

جانچ کا بندوبست کرنے والا جانچ کے اختیار کنندگان کو جانچ کے نتائج کی مناسب اور قابل فہم وضاحت اور ان سے اخذ سفارشات فراہم کرتا ہے یہیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تب بھی جب کہ جانچ کو درست طور پر انجام دیا گیا ہو، اسکور کیا گیا اور توضیح کی گئی ہو لیکن بغیر بحث کا موقع دیتے ہوئے محض مخصوص عددی شمار (جیسے آئی۔ کیے اسکور، استعداد اسکور وغیرہ) فراہم کیا جائے تو یہ جانچ کے اختیار کنندہ کے لیے مزید نقصان دہ ہو سکتا ہے۔

جانچ کے انتظام کے طریقہ عمل

نفسیاتی جانچ کو صرف پیشہ ورانہ طور پر اہل فرد کے ذریعہ ہی انجام دیا جاسکتا ہے۔ +2 سطح کی نفسیات کا ایک طالب علم پیشہ ورانہ طور پر اہل فرد کے درجے میں نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا وہ کسی نتیجہ خیز مقصد جیسے انتخاب، پیشن گوئی تشخیص وغیرہ کے لیے ایک نفسیاتی جانچ کے اسکور کی توضیح نہیں کر سکتا۔ اس مقصد کے لیے جانچ کا منتظم چھوٹے چھوٹے اجزا یا سرگرمیوں کو بانٹ سکتا ہے جس پر کہ جانچ مبنی ہو، تصورات کو سمجھنے کے لیے آموزشی مہارتوں پر زور دینا چاہیے، شریک کار کے ربط قائم کرنے کو فروغ دینا چاہیے جانچ کے انتظام میں ہدایات دینا، مناسب ترین جانچ کی حالت کو برقرار رکھنا، احتیاطی تدابیر کرنے اور جانچ کے شمار کو انجام دینا شامل ہے۔

نفسیاتی آزمائش میں پریکٹیکل کام انجام دینے کے لیے درج ذیل اقدامات اور رہنما اصول کی تجویز پیش کی جاتی ہے:

1- مینوئل اور کلید عمل شمار کے ساتھ جانچ کو متعارف کیا جانا چاہیے۔ استاد کو ربط قائم کرنے، ہدایات اور احتیاطی تدبیر جسے سرانجام دیے جانے کی ضرورت ہوتی ہیں پر زور دیتے ہوئے اپنی کلاس کے سامنے مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے جانچ پوری کلاس کے ذریعہ انجام دی جاسکتی ہے۔

2- طلبا کو ہدایت دینی چاہیے وہ جوابی یا عمل شمار کی شیٹوں پر ایک نام نہ لکھیں نام یا فرضی نام کا استعمال نہ کریں۔ طلبا کی جوابی شیٹوں کو استاد کے ذریعہ اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔ رازداری کو قائم رکھنے کے سلسلے میں یہ بہتر ہے کہ جوابی شیٹوں کو ملا جلادیا اور فرضی نمبر ہر جوابی شیٹ پر دیا جائے۔

3- ایک ایک جوابی شیٹ کو عمل شمار کے لیے کلاس میں ہر طالب علم کو استاد کے ذریعہ دیا جاسکتا ہے۔ مینوئل میں دی گئی ہدایات کے مطابق عمل شمار کے لیے طلبا کی رہنمائی کی جاسکتی ہے۔

4- جوابی عمل شمار کی شیٹ کو ٹیچر کے پاس رکھا جانا چاہیے تاکہ وہ جانچ کے اسکور کی توضیح میں سردست تجربہ فراہم کرنے کے لیے فرضی مواد کے طور پر بعد میں استعمال کیا جاسکے۔

5- طلبا کو اپنے ربط قائم کرنے کی مہارتوں، ہدایت دینے کی مہارتوں وغیرہ کی جانچ کے لیے استاد کے ساتھ منتخب شرکا پر وہیں جانچ انجام دیے جانے کی ضرورت ہوگی۔

6- استاد فرضی مواد کے اسکور کو استعمال کر سکتے ہیں اور مظاہر آسکتے ہیں کہ کس طرح معیارات کی مدد سے خام اسکور کی توضیح کے لیے مینوئل کا استعمال کریں۔

7- طلبا کو یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح مواد کے تجزیے پر مبنی نتائج کو اخذ کیا جائے۔

8- درج بالا رہنما اصولوں کی بنیاد پر طلبا کو انجام دی گئی جانچ کی رپورٹ کو تیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔

نفسیاتی جانچ رپورٹ تحریر کرنے کے لیے مجوزہ خاکہ

1- مطالعہ کے لیے مسئلہ/عنوان (مثال دسویں جماعت کے مطابق /شخصیت/ استعداد کی سطح کا مطالعہ۔

2- تعارف

- بنیادی تصورات
- متغیرات

3- طریقہ

- موضوع
- نام
- عمر
- جنس
- جماعت

(نوٹ: چونکہ مواد کو رازداری میں رکھنا ہے اس لیے مضمون کی تفصیلات کو فرضی نمبر کے تحت رکھا جاسکتا ہے)

- مواد
- جانچ کی مختصر اوضاحت (جانچ کا نام، بانی، سال، نفسیاتی پیمائش کی خصوصیات وغیرہ)

• دیگر سامان (جیسے اسٹاپ واچ، اسکرین وغیرہ)

• طریقہ عمل

• جانچ کے بندوبست کا عمل، جیسے ربط قائم کرنا، ہدایات، احتیاطی

تدابیر، جانچ کا حقیقی طریقہ وغیرہ

• جانچ کا عمل شمار

• گراف تیار کرنا، نفسیاتی نقشہ نگاری وغیرہ (اگر ضرورت ہو)

4- نتائج اور حاصل

• معیارات اور نتائج اخذ کرنے کے معنی میں مضمون کے اسکور کو

بیان کرنا

5- حوالہ جات

• کتابوں، مینول اور موضوع سے رجوع کرنے کی فہرست

II کیس پروفائل

ایک کیس پروفائل تیار کرنے میں بنیادی طور پر صفاتی تکنیکوں کا استعمال شامل ہوگا جیسے مشاہدہ، انٹرویو، سروے وغیرہ۔ ایک کیس پروفائل تیار کرنے کے دوران طلبا کو ان صفاتی تکنیکوں کے استعمال میں براہ راست تجربہ حاصل ہوگا۔ کیس پروفائل تیار کرنے کا خاص مقصد فرد کو کئی طور پر موثر رشتہ قائم کرنے میں مزید مدد ملے گی۔ طلبا کسی فرد کی کیس پروفائل تیار کر سکتے ہیں جو کھیل، تعلیمی، موسیقی وغیرہ کے میدان میں اعلیٰ و برتر ہوں یا جن کی کوئی مخصوص ضرورتیں ہوں جیسے آموزشی معذوری یا تخیل پرستی، ڈاون مجموعہ علامت وغیرہ یا جن کے ساتھ باہمی رابطہ قائم کرنے کا سماجی مسئلہ موجود ہو جیسے کمزور جسمانی شکل و صورت، فریبی، مچلنا یا بد مزاجی، منشیات کی عادت، اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ نہ گھل مل پانا، کھنچا رہنا وغیرہ۔ فرد کے پس منظر کی معلومات اور نشوونما سے متعلق حالات معلوم کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے۔ طلبا سے دریافت کرنے کے طریقوں جیسے انٹرویو یا مشاہدہ ان طریقوں کی شناخت ضروری ہے جسے وہ کیس کی پوری معلومات حاصل کرنے کے لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ کیس پروفائل مجوزہ وضع (فامیٹ) کی بنیاد پر تیار کیا جاسکتا ہے۔ کچھ ابتدائی نتائج اخذ کرنے کے لیے اسباب پر غور و خوض کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے۔

کیس پروفائل تیار کرنے کے لیے مجوزہ خاکہ

کیس کو پیش کرنے کے لیے وسیع پہلوؤں پر مشتمل خاکہ درج ذیل ہے۔ یہ تجویز دی جاتی ہے کہ انہیں درج ذیل نکات کے ساتھ بیانیہ اسلوب کے خاکہ میں تیار کیا جاسکتا ہے۔

1- تعارف

• مسئلے کی نوعیت اس کے دائرہ اثر، ممکنہ اسباب اور ممکنہ مشاورتی

نتائج کو پیش کرتے ہوئے تقریباً ایک یا دو صفحے کا مختصر تعارف۔

• آدھے صفحے میں کیس کا (مختصر) خلاصہ

2- مواد کی شناخت

• نام (فرضی نام ہو سکتا ہے)

• تشخیص شدہ مسئلہ

• رضا کارانہ یا کسی کے ذریعہ بھیجا گیا (یعنی جیسے ٹیچر، والدین،

بھائی، بہن وغیرہ)

3- احوال معاملہ (کیس ہسٹری)

• ایک اقتباس میں عمر، جنس، اس کا اسکول، جماعت جس میں اس

وقت نام درج ہو۔

• سماجی اور معاشی حیثیت کے بارے میں معلومات جو ماں یا باپ

کی تعلیم اور پیشہ، کنبہ کی آمدنی، گھر کی قسم، کنبہ میں اراکین یعنی

بھائی، بہن کی تعداد اور ان کی پیدائش کی ترتیب، کنبہ میں ساز

گاری وغیرہ کی معلومات پر مشتمل ہو، جسمانی صحت، جسمانی

خصوصیات (جیسے قد اور وزن)، کسی طرح کی معذوری یا بیماری

(ماضی اور حال میں) کے بارے میں معلومات وغیرہ۔

• کیا کوئی پیشہ ورانہ مدد لی گئی (پہلے یا حال میں) اس میں مسئلے کا

مختصر احوال اور مشاورت کے تین روئے (مدد چاہیے محرکات کا

اشارہ کرتے ہوئے) ظاہر کرتے ہوئے بتایا جانا چاہیے۔

• ریکارڈ کرنے کی علامات (یعنی چہرے کے تاثرات، مخصوص

انداز وغیرہ کے معنی میں) اور آثار (یعنی موضوع کیا معلومات

فراہم کرتا ہے، خوف، تشویش، تناؤ، بے خوابی، وغیرہ)

4- اختتامی تبصرات